

7

FORM OF ORDER SHEET

Appeal No. 327/2024

S.No	Date of order received	Order or other proceedings with signature of judge
1	28/02/2024	The appeal of Mr. Sulbat Kha presented today by Mr. Taimur Ali Khan Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on 29.02.2024. Parcha Peshi is given to counsel for the appellant.

By the order of Chairman

  
REGISTRAR

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR**

SERVICE APPEAL NO. 327/2024

Subhat Khan

V/S


Police Department

-----  
**INDEX**

S.No.	Documents	Annexure	Page No.
1.	Memo of appeal	-----	01-05
2.	Affidavit	-----	06
3.	Copy of complaint	A	07-08
4.	Copies of charge sheet along with the statement of allegations and reply	B&C	09-12
5.	Copy of order dated 26.09.2023	D	13
6.	Copies of inquiry report along with statements	E	14-31
7.	Copies of dismissal order dated 10.11.2023 and departmental appeal	F&G	32-35
8.	Wakalat Nama		36

THROUGH:

APPELLANT

  
(TAIMUR ALI KHAN)  
ADVOCATE HIGH COURT  
03339390916

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR**

SERVICE APPEAL NO. 324/2024

Suhbat Khan, Ex-IHC No. 3436,  
Elite Force, Mardan.

(APPELLANT)

**VERSUS**

1. The Deputy Commandant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

(RESPONDENT)

-----

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE KHYBER  
PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974  
AGAINST THE ORDER DATED 10.11.2023, WHEREBY  
THE APPELLANT WAS DISMISSED FROM THE  
SERVICE AND AGAINST NOT TAKING ACTION ON THE  
DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT  
WITHIN THE STATUTORY PERIOD OF NINETY DAYS.**

**PRAYER:**

**THAT ON THE ACCEPTANCE OF THIS APPEAL, THE  
ORDER DATED 10.11.2023 MAY PLEASE BE SET ASIDE  
AND THE APPELLANT MAY KINDLY BE REINSTATED  
INTO SERVICE WITH ALL BACK AND  
CONSEQUENTIAL BENEFITS. ANY OTHER REMEDY  
WHICH THIS AUGUST TRIBUNAL DEEMS FIT AND  
APPROPRIATE THAT MAY ALSO BE AWARDED IN  
FAVOUR OF APPELLANT.**

-----

**RESPECTFULLY SHEWETH:**

**FACTS:**

1. That the appellant was appointed in the respondent department as Constable in the year 2007 and has completed all his due training and was promoted to the rank of IHC with the passage of time. The appellant since his appointed has performed his duty with devotion and honesty, whatsoever, assigned to him.
2. That an anonymous complaint was filed against IHC Naeem, Ismail and the appellant in which it is stated that these officials with the connivance of his high ups posted constables on their choices of place and took illegal gratification in lieu of that and also took illegal gratification from constables for getting them short/long leave. **(Copy of complaint is attached as Annexure-A)**
3. That charge sheet along with statement of allegations were issued to the appellant in which following charges were levelled against the appellant that while posted as gunner to SP/Elite Force Mardan Region remained involved in corrupt practices and it has been established during the secret probe that he has been receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them short/long leave. The appellant submitted detail reply to the charge sheet in which he denied the allegations and clearly mentioned in his reply that he has remained only 04 months with SP/Elite Force and has not involved in corrupt practices and also mentioned that the long leave and short leave is the prerogative of the Deputy Commandant and SP Range respectively and he has no concern with the short/long leave. **(Copies of charge sheet along with the statement of allegations and reply are attached as Annexure-B&C)**
1. That Mr. Atta Muhammad Khan SP Peshawar Region who was nominated inquiry officer was biased toward the appellant, therefore, the appellant requested to Deputy Commandant Elite Force KP for transfer of inquiry officer, however, the Deputy Commandant Elite Force KP instead of transfer inquiry to another unbiased inquiry officer additionally nominated another inquiry officer Mr. Ijaz Abazai DSP Headquarter Elite Force Peshawar along with already nominated inquiry officer, which is evident from the order dated 26.09.2023. **(Copy of order dated 26.09.2023 is attached as Annexure-D)**
2. That inquiry was conducted against the appellant in which statements of different officials were recorded in which they clearly mentioned in their statements that no one has demand illegal gratification from them and they are performing their duty honestly, whatsoever, so assigned to them and if any one gave statement against the appellant during the inquiry proceeding, the appellant has not given

opportunity of cross examination of that officials, but despite that the inquiry committee found him guilty. **(Copies of inquiry report along with statements are attached as Annexure-E)**

3. That on the basis of baseless allegation and without issuing show cause notice to the appellant, he was dismissed from service vide order dated 10.11.2023. The appellant being aggrieved from dismissal order dated 10.11.2023 filed departmental appeal on 16.11.2023, which was not responded within the statutory period of ninety days. **(Copies of dismissal order dated 10.11.2023 and departmental appeal are attached as Annexure-F&G)**
4. That the appellant now wants to file the instant appeal in this Honorable Tribunal for redressal of his grievance on the following grounds amongst others.

**GROUND:**

- A) That the impugned order dated 10.11.2023 and not taking action on the departmental appeal within statutory period are against the law, facts, norms of justice and material on record, therefore, not tenable and the order impugned dated 10.11.2023 is liable to be set aside.
- B) That no proper and regular inquiry was conducted against the appellant as those officials who has given statements against the appellant which were mentioned by the inquiry committee in its report were not recorded in the presence of the appellant during the inquiry proceeding nor gave opportunity of cross examination to the appellant, which is violation of law and rules and such the impugned order is liable to be set aside.
- C) That the inquiry committee recorded the statements of different officials during the inquiry proceeding in which they clearly mentioned in their statements that no one has demand illegal gratification from them and are performing their duty honestly, whatsoever, so assigned to them, but despite that the inquiry committee established the allegations leveled against the appellant, which means that the appellant has been punished for no fault on his part and as such the impugned order is liable to be set aside on this ground alone.
- D) That all the officials recorded their statements in the favour of the appellant during the inquiry proceeding except someone and that were also recorded not directly against the appellant but against other officials, but despite that the appellant hold responsible by the inquiry committee, which means that the appellant has been punished on presumption basis which is against the norms of justice and fair play.

- E) That one of the allegation leveled against the appellant in the charge sheet while posted as gunner to SP/Elite Force Mardan Region remained involved in corrupt practices, but without specification of any occurrence or event which shows that the appellant is involved in corrupt practices, which means that the appellant was punished on presumption basis which is not permissible under the law and rules.
- F) That another allegation leveled against the appellant in the charge sheet is that it has been established during the secret probe that he has been receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them, but grating long leave and short is the authority of high ups and the appellant being IHC (low grade employee of the department) how can he get long leave and short leave for other constable and has no concerned with that and he also stated that in his reply to charge sheet, but despite that he was punished which is against the norms of justice and fair play.
- G) That the allegations leveled against the appellant in the charge sheet is that he remained involved in corrupt practices while remained posted as gunner to SP/Elite Force Mardan Region and receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them, but the inquiry committee gave focus on other issues in the inquiry proceeding rather to prove the allegations leveled against the appellant.
- H) That the action was taken against the appellant on anonymous compliant but as per instructions anonymous complaints should normally be filed, but whole action was taken against the appellant on anonymous complaint which means that action taken against the appellant is against the instructions of anonymous complaints as such the impugned order is liable to be set aside.
- I) That in the anonymous compliant, name of other officials has also been mentioned, but no action has taken against them and only appellant was punished without adopting procedure and as such the appellant was discriminated which is clear violation of Article-25 of the Constitution of Pakistan.
- J) That the allegations leveled against the appellant in the charge sheet that it has been established during the secret probe that he has been receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them, but as per superior court judgments one can be punished on the basis secret inquiry.
- K) That show cause notice was not issued to the appellant before passing the impugned order which is against the norms of justice and fair play

- L) That the appellant has right of fair defence under Article-10-A of the Constitution of Pakistan which was not observed by the inquiry committee during inquiry proceeding, which is clear violation of Article-10-A of the Constitution of Pakistan.
- M) That the appellant has not been treated in accordance with law and rules and has been condemned unheard throughout.
- N) That the appellant seeks permission of this Honorable Tribunal to advance others grounds and proofs at the time of hearing.

It is, therefore, most humbly prayed that on the acceptance of this appeal, the order dated 10.11.2023 may please be set aside and the appellant may kindly be reinstated into service with all back and consequential benefits. Any other remedy which this Honorable Tribunal deems fit and appropriate that may also be awarded in favour of appellant.

*Suhbat Khan*

**APPELLANT**  
Suhbat Khan

THROUGH:

*(Taimur Ali Khan)*  
**(TAIMUR ALI KHAN)**  
**ADVOCATE HIGH COURT**

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL**  
**PESHAWAR**

SERVICE APPEAL NO. \_\_\_\_\_/2024

Subhat Khan

VS

Police Department

**AFFIDAVIT**

I, Subhat Khan, Ex-IHC No. 3436, Elite Force, Mardan, (Appellant) do hereby affirm and declare that the contents of this service appeal are true and correct and nothing has been concealed from this Honorable Tribunal.

*Subhat Khan*

**DEPONENT**



تشریح کرنا ہے کہ مسائل کا حل کیا ہے

الخاصاں زر و دولت کا مجموعہ تھا جو کہ ہمارے

انڈیا کا قریب اس کا نام لقمہ ۱۴۴۰ ۱۵۰۰ تھا

مابقی لقمہ ہے اس نے لقمہ آرڈر ایک ادھی

دکھائی دیا ہے اس کا نام صادق حسین ہے

۱۹۶۹ لقمہ آرڈر دکھائی دیا ہے ۱۴۴۰

لقمہ اپنے آدمیوں کا ڈیوٹی لقمہ ہے

لگایا ہے ہمارے سنی خاصاں ان کے ساتھ

ملا ہے اور جو شہر لوگ ان کو لقمہ

دیکھ کر تاراج کرنا شروع کر دیے

انہی ڈیوٹی لقمہ صلیب پر لکھا ہے لقمہ ۱۴۴۰

انہی ڈیوٹی لقمہ لگایا ہے اس کے ساتھ

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰

دراختہ کا بروکری کا کارڈ

۱۴۴۰ لقمہ لگایا ہے لقمہ ۱۴۴۰



8

اسیٹل کے لیے مردان

1441 عیوب خان کے مردان میں

کوئی بیانیہ ہے۔ عیوب خان کے مردان میں 1441

دوں مسئلے ہیں۔ اول یہ کہ عیوب خان کے مردان

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

اور عیوب خان کے مردان میں ہیں

اور عیوب خان کے مردان میں ہیں

اور عیوب خان کے مردان میں ہیں

میں نام عیوب خان کے مردان میں ہیں

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

جو کہ عیوب خان کے مردان میں ہیں

~~PSO/DC~~

Select problem  
the matter of

D/Control  
E

7


①

B 9

**CHARGE SHEET**

I, **Abdus Samad, Deputy Commandant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar** as competent authority hereby charge you **IHC Subbat Khan No.3436** while posted at platoon No.3 gunner to SP/EF Mardan as under:-

- a) That you while posted as gunner to SP/Elite Force Mardan Region remained involved in corrupt practices.
  - b) That it has been established during secret probe that you have been receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them short/long leave.
  - c) That his this act is highly objectionable against the norms of the Police disciplinary Rules 1975
  - d) That your act amounts to gross misconduct and liable to be proceeded against departmentally.
1. By reason of the above, you appear to be guilty of misconduct under the Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (Amended 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the rules.
  2. You are therefore, directed to submit your defence within 07 days of the receipt of this charge sheet to the enquiry officer.
  3. Your written defense, if any, should reach the enquiry officer within the specified period failing which, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.
  4. You are directed to intimate whether you desire to be heard in person.
  5. A statement of allegations is enclosed.

  
**(ABDUS SAMAD) PSP**  
Deputy Commandant,  
Elite Force Khyber, Pakhtunkhwa  
Peshawar.

6

(10)


SUMMARY OF ALLEGATIONS

I, **Abdus Samad**, Deputy Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar as competent authority, am of the opinion that **IHC Suhbat Khan 3436** posted at platoon No.3 performing duty as gunner to SP Elite Force Mardan Region has rendered himself liable to be proceeded against as he has committed the following misconduct within the meaning of Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975 (Amended 2014).

SUMMARY OF ALLEGATIONS

- a) That he while posted as gunner to SP/Elite Force Mardan Region remained involved in corrupt practices.
- b) That it has been established during secret probe that he has been receiving, receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them short/long leave.
- c) That his this act is highly objectionable, against the norms of the Police disciplinary Rules 1975
- d) That your act amounts to gross misconduct and liable to be proceeded against departmentally.

1. For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused with reference to the above allegations, **Mr. Atta Mohammad Khan** SP Peshawar Region is appointed as Enquiry Officer.
2. The Enquiry Officer shall provide reasonable opportunity of hearing to the accused official; record statements etc and submit findings within (07 days) of the receipt of this order.
3. The accused shall join the proceedings on the date, time, and place fixed by the Enquiry Officer.

  
(ABDUS SAMAD) PSP  
Deputy Commandant,  
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar.

No. 13281-87/EF, dated Peshawar the: 15/08/2023.

Copy of the above is forwarded to the:-

1. Office Superintendent Elite Force Peshawar.
2. Accountant Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. OASI/EC/SRC, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

بیان آذان IHC صحبت خان بلیٹ نمبر 3436 گنر SP ایلٹ فورس مردان ریجن

جناب عالی!

بحوالہ چارٹیٹ نمبر EF/87-13281 مورخہ 15/09/2023 مجاریہ دفتر جناب ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب ایلٹ فورس معروف خدمت ہوں کہ میں بطور گنر SP مراد خان ایلٹ فورس مردان ریجن کیساتھ ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں۔ جس کا دورانیہ گزشتہ 4 ماہ پر محیط ہے۔ اس عرصہ کے دوران دفتر ہذا سے کسی قسم کی پلاٹونز ہذا کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا حکم نہیں ہوا۔

علاوہ ازرخصت کلاں جناب ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب جبکہ رخصت اتفاقیہ جناب SP صاحب کے دائرہ اختیار پر محیط ہے۔ چھٹی پر روانگی پلاٹون کمانڈر اور ڈسٹرکٹ کمانڈر کا کام ہے۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں نے کسی سے رشوت لی ہے۔ اس سلسلہ میں مردان ریجن کے تمام ڈسٹرکٹ کمانڈران نے اپنے اپنے بیانات قلمبند کیے ہیں جو ہمراہ لف ہے۔ جبکہ دفتری امور رخصت اتفاقیہ اور دیگر رخصت ہائے PA روح الامین کے زیر نگرانی SP صاحب سے دستخطی کرواتا ہے۔ جن سے من سائل کا کوئی سروکار نہیں۔ جو کہ اسماعیل نائب ریڈر مردان ریجن میں عرصہ دراز سے تعینات ہے اور مردان ریجن کے سارے امور رخصت، تبادلہ جات اور دیگر افسران بالا کا حکم و احکام پلاٹونز کمانڈر کو دیتا ہے۔ نائب ریڈر اسماعیل اور کلریکل سٹاف نے SP صاحب کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جعلی دستخط پر رخصت اور ٹرانسفر وغیرہ کی درخواستوں پر مہر ثبت کی تھی۔ جس کا SP صاحب کو علم ہوا۔ جن کی کاپیاں ہمراہ لف ہے۔

نائب ریڈر اسماعیل اور کلریکل سٹاف کا اس بات کا علم ہوا۔ جس کی بناء پر مذکورین کو رنج اور وہم کا سامنا کرنے کے بعد بددیانتی سے گنم درخواست دائر کر کے جناب SP صاحب کو بدنام کرنے اور مجھ پر بجا الزامات لگا کر پھنسانے کی ناکام کوشش کی۔ اور یہ کیپٹن تقریباً 20 یوم قبل جناب ڈپٹی کمانڈنٹ کے PSO حبیب اللہ خان کے حوالہ ہو کر مختلف پلاٹون سے لڑکوں کو بسلسلہ انکوائری مورخہ 29/08/2023 اور مورخہ 30/08/2023 طلب کر کے بیانات لئے گئے۔ جس میں میرے خلاف کوئی بھی ثابت نہ ہو سکا جن کی تفصیل ذیل ہے۔

- 1- آیاز خان نمبر 6068 پلاٹون نمبر 26
- 2- طارق خان نمبر 4356 پلاٹون نمبر 27
- 3- اسد اللہ نمبر 2976 پلاٹون نمبر 31
- 4- محمد وسیم نمبر 3202 پلاٹون نمبر 30
- 5- SI گوہر خان پلاٹون نمبر 27
- 6- LHC داؤد خان نمبر 1306 پلاٹون نمبر 30
- 7- احمد حسین نمبر 1362 پلاٹون نمبر 26
- 8- ذیشان نمبر 4937 پلاٹون نمبر 31

حبیب اللہ خان

12

لہذا میرے خلاف متذکرہ بالا لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو تو دوران انکوائری افسران بالا کو پیش کرے۔ استدعا ہے میرے خلاف جو جارج شیٹ جاری ہو ہے بغیر کسی حکمانہ کاروائی داخل دفتر کی جائے۔

*Sunil Kumar*

آپ کا تابع الحکم IHC صحبت حسان

بلٹ نمبر 3436 متعینہ گٹر SP ایلٹ فورس مردان ریجن

موبائل نمبر: 0313-9465481



Office of the Deputy Commandant,  
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar



13

No. 13841-43/13/17

Dated: 26/09/2023

ORDER

Today on 26.09.2023 IHC Subbat Khan No. 3436 posted at Platoon No. 3 performing duty as gunner to SP Elite Force Mardan Region appeared having some personal grievances to address. As the alleged official is being proceeded departmentally on the charge of involvement in mal-practices, he requested for transfer of the inquiry officer (Mr. Atta Muhammad SP EF Peshawar Region) having certain reservations. The alleged official was patiently heard in detail, during personal hearing he failed to advance any plausible material in support of his stance. However, to address his grievances Mr. Ijaz Abazai DSP HQrs: Elite Force Peshawar is also nominated as Enquiry Officer additionally alongwith EO already nominated to jointly to look into the matter and finalize the instant enquiry on its own merit in collaboration with Mr. Atta Muhammad SP EF Peshawar Region

(ABDUS SAMAD) PSP  
Deputy Commandant  
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar

Copy to the:-

1. Superintendent of Police, Elite Force, Peshawar region.
2. Deputy Superintendent of Police, Elite Force, HQrs: Peshawar.
3. IHC Subbat Khan No. 3436 Platoon No. 3 for information.



Office of the Superintendent of Police,  
Elite Force Peshawar Region  
Office No. 091-9223617



E  
14

No. 437 /R SP/PR/EF B. No. 6571 Dated: 17/10/2023

Date 17-10-23  
Commandant Elite Force

Subject: DEPARTMENTAL ENQUIRY FINDING REPORT AGAINST DELIQUENT IHC SUHBAT KIAN

R/Sir,

**Allegations:**

It is submitted that this is departmental enquiry against **IHC Suhat No. 3436 of Elite Force Peshawar Region Platoon No.03**, who was issued summary of allegations and charge sheet containing the following charges:-

- That he while posted as gunner to Superintendent of Police Elite Force Mardan Region was found involved in corrupt practices.
- That it was established during secret probe that he was receiving illegal gratification from the constables of Mardan Region of Elite Force in lieu of getting them short/long leave.
- That this act is highly objectionable, against the norms of the Police Disciplinary Rules 1975.
- That his act amounts to gross misconduct and liable to be proceeded departmentally.

**Proceedings:**

I, the undersigned, was officially appointed as enquiry officer by Deputy Commandant Elite Force to conduct a thorough Departmental Enquiry into the aforementioned charges. In order to thoroughly investigate the matter, below mentioned officials were heard in persons and recorded their statements as enclosed for ready reference:-

- 1) Inspector Sardar Hussain Khan, Distt: Commander Elite Force Mardan.
- 2) Inspector Noor UI Wahab Distt: Commander Elite Force Charsadda.
- 3) SI Gohar Rehman No 361/MR.
- 4) Senior Clerk Rooh UI Amin, PA to SP Elite Force Mardan Region.
- 5) Computer Operator Salamat Khan.
- 6) OASI-Elite Force Peshawar.
- 7) IHC Suhat No.3436 (Gunner/alleged)
- 8) IHC Naeem Khan No.2860, Platoon No.27
- 9) IHC Zameen Shah No.698, MHC EF Nowshera.
- 10) IHC Iftikhar Hussain MHC Elite Force Swabi
- 11) HC Shahid Iqbal No.670, Platoon No.23
- 12) HC Intikhab Alam No.2026, MHC EF Charsadda.
- 13) LHC Sabtain No.3802, Platoon No.97
- 14) HC Tahir Khan No.3684, Platoon No.98
- 15) FC Rameez No.4819, Platoon No.22
- 16) FC Muhammad Adil No.1416, Platoon No.23
- 17) FC Ismail No.1474, Platoon No.74
- 18) FC Zakria No.3374, Platoon No.17
- 19) FC Zaheer Abbas No.3848, Platoon No.36
- 20) FC Tariq No.3071, Platoon No.35

Noway Khan



2 2

(15)

Throughout the course of the enquiry and the process of recording statements from relevant officials, it was become evident that the involvement of the accused IHC Suhbat Khan in acts of malpractice and corruption is highly substantiated and irrefutable. However, it was worth noted that none of the individuals was involved in instant matter were willing to provide immediate statements based on the merits of the case, primarily due to their apprehension regarding potential repercussions.

Nonetheless, some individuals voluntarily assumed the risk and submitted their statements with the aim of distancing themselves from IHC Suhbat Khan. In the context of this enquiry proceeding, the undersigned enquiry officer, have made the following observations, which are delineated as follows:-

**Findings:-**

1. Initially the posting record of the gunners deployed with Mr. Murad Khan Regional Commander Elite Force Mardan were sought from OASI Elite Force Peshawar, which according to the records, none of the gunners was posted with the respective Regional Commander Elite Force Mardan and that IHC Suhbat is without proper order performing duty as gunner with Regional Commander Mardan Region. Moreover, 08 Police Officials noted below including 03 IHCs were deployed in the name of Regional commander's squad, which according to the statement of Moharrar Elite Force Mardan Region, there is no squad for Regional Commander actually exist:-

- Adil
- i. IHC Irshad No.3174
  - ii. IHC Iltaf Hussain No.4970 MHC Elite Force Swabi.
  - iii. IHC Fayaz Tahir No.2755 Platoon No.31
  - iv. FC Zaheer Abbas No.3848 Platoon No.36 ✓
  - v. FC Muzamil Shah No.2908 Platoon No.28 ✓
  - vi. FC Tariq No.3071 Platoon No.35
  - vii. FC Sabtain No.3802 Platoon No.97
  - viii. FC Shams Ul Hadi No.4954 Platoon No.36

2. Upon perusal of the record reveals that Daily diary No.26 dated 26.05.2023 at 23:30 hours was incorporated from the side of IHC Suhbat wherein it was stated that Constables Rameez No 4849 and Adil No.1416 will perform light duty as both the Constables are ill but during course of enquiry it was reveals that it was done for ulterior motive by IHC Suhbat as both the constables verbally admitted monthly payment to IHC Suhbat but did not deposed in statement due to hesitation. It clearly reflects that IHC Suhbat was involved in corrupt practices. As per D.D vide No 07 dated 24-07-2023 (copy enclosed), at 11:45 MM Elite NSR reported that information was received through phone call No.03135928801 from IHC Suhbat and stated that constable Wajid No.473 would perform Dak duty.

3. Constable Ismail No.1474 in his statement has clearly stated that the alleged IHC Suhbat Khan gave free hand to the following Officials who were not performing official duty and persistently are at their respective homes:-

- i. FC Rameez No.4819, Platoon No.22
- ii. FC Adil No.1416, EPTC Nowshera
- iii. FC Sabtain No.3802, Platoon No.97
- iv. FC Fayaz Tahir No.2755, Platoon No.31

3. Besides others constable Tahir Khan No.3684 Platoon No.98 deposed that all the RRF Units and Elite Platoons used to collect Rs.500/- per head in each month to pay to IHC Suhbat Khan.

4. Inspector Sardar Hussain, District Commander Elite Force Mardan in his statement also deposed that information report prepared on his behalf and enclosed with the statement of IHC Suhbat has neither handed over to him nor scribed by him rather the same was submitted to Regional Commander, adding that his fuel card is already in use of Mr. Murad Khan Regional Commander Elite Force Mardan still is in his possession.

5. Inspector Noor Ul Wahab, the District Commander Elite Force Charsadda, provided a clear and formal statement regarding the assessment of personnel strength within the District Commander Elite Force Charsadda. It was ascertained that Constable Sabtain No.3802 was previously assigned the role of gunner under the supervision of SI Gohar Rehman, the than District Commander Elite Force Charsadda. MHC Elite Force Charsadda, IHC Intikhab Alam, reported that the aforementioned constable had previously fulfilled duties as a gunner under the purview of the District Commander in Charsadda. Consequently, it has been determined that he shall continue to serve duty as a gunner under his command. Subsequently, there was a consistent requirement for the said constable to fulfill his duties in this role. However, it was reflected during the course of enquiry that the constable, leveraging certain influences, communicated to Inspector Noor Ul Wahab through higher channels, asserting that he should not have been summoned for duty.

6. SI Gohar Rehman, No. 361/MR, stated in his statement that during his tenure as the District Commander Elite Force in Swabi, Murad Khan, the Regional Commander Elite Force Mardan, directed that FC Sabatin, No. 3802, of Elite Platoon No. 97 District Charsadda be deputed to serve as Gunner to the District Commander Elite Force Charsadda. It was explicitly communicated that the aforementioned FC has to be on leave from gunner duties and was not to be involved in any gunner-related tasks. On the 07-06-2023, SI Gohar Rehman was transferred from District Commander Elite Force Charsadda to Elite Platoon No. 27 District Mardan.

7. Constable Zakaria No.3374 clearly in his stated statement that he has been performing driver duty with the District Commander Elite Force Charsadda for about 08/09 months. As per the orders of High-ups the district commander, has been approved 100 liters of diesel from the Elite headquarters Peshawar for pick-up official vehicle number 9811. On the orders of Moharrar Elite Force Charsadda Intikhab Alam, amount of 50 liters of diesel out of 100 liters were handed over to the IHC Suhbat, Gunner of SP Murad Khan and the same was brought into the notice of the district commander Elite Force Charsadda. Similarly, on the first day of every month, Gunner IHC Suhbat used to pay amount of 50 liters of diesel which would have been around Rs.15000 and if the price of diesel had increased, the price would have been Rs.16000/17000.

4 (17)

(17)

8. All the allegations made by accused IHC Suhbat in his written statement/ reply of charge sheet were thoroughly investigated, therein it was found that the accused official made false statements to divert the enquiry in his defense as well as during the course of enquiry on written application of accused IHC Suhbat Khan, DSP Headquarters Elite Force Mr. Ijaz Abazai was additionally appointed as co-enquiry officer vide letter No. 13841-43/EF dated 26-09-2023.

9. Throughout the course of the inquiry, it has been presumed from all the testimonies that the various instances of corruption and unauthorized transfer/postings predominantly commenced subsequent to the appointment of Mr. Murad Khan as the Regional Commander Elite Force in Mardan. It is implausible that he remained entirely oblivious to the occurrences of illegal transfer postings and corrupt practices. It is indeed remarkable that, over this protracted duration, the Regional Commander Elite Force Mardan Region neither has instigated any legal measures against these illegal transfers/postings nor communicated relevant information higher authorities.

10. During the course of enquiry, it was noted through a comprehensive assessment that Regional Commander Elite Force Mardan Region was engaged in corrupt practices with his gunner IHC Suhbat, especially while involving subordinates within his jurisdiction for receiving bribe etc, presents a situation fraught with uncertainty. Consequently, a substantial portion of the Elite Force personnel stationed within the Mardan Region harbor the belief that such corrupt practices was facilitated with the tacit support of senior ranking officers of Elite Force Khyber Pakhtunkhwa.

11. A Special Branch report regarding Regional Commander Elite Force Mardan Mr. Murad Khan and accused Official IHC Suhbat has also been sought from Special Branch.

12. During tracing the records of CDRs of all the officials who were transferred/posted illegally were also investigated, which proved that Officials of SP Squad were present in their native villages thorough out the period. (Summary of all cellular data are enclosed).

13. As far as Mr. Murad Khan, SP Elite Force Mardan Region is concerned, during the inquiry it has also been clearly revealed that the Regional Commander Mardan has a weak supervision due to the following reasons:-

- a. For so long, his gunner has been inciting the entire elite force for corruption through various means, why no action has been taken against him.
- b. If this corruption is only a personal act of his gunner IHC Suhbat, then why didn't SP Murad Khan know about the increase or decrease in the Elite personnel during the inspection of the districts in such a long time? Whereas the office of Regional Commander Murad Khan has informed the higher officials in all these informal visits that the strength of Elite Force throughout the region is complete.
- c. For what purpose the SP Elite Mardan Region took possession of the monthly petrol card from Inspector Sardar Khan, District Commander Elite Mardan Region.

- 5 8
- (18)
- d. As why was IHC Suhbat posted as a gunner with him (Murad Khan) without formal orders?
  - e. As a Gunnar IHC Suhbat has made all the appointments in Mardan region on his authority, why SP Murad Khan was not responsive of it?
  - f. That during the inquiry, accused IHC Suhbat blamed constable Ismail No. 1474 of using forged signature of Regional Commander Mardan, which was later proved to be false, why neither this act brought to the notice of the higher officers in time before the inquiry nor SP Elite Mardan himself as the Regional commander take any action against FC Ismail at that time?

14. The police department functions primarily as an institution dedicated to upholding regulations and maintaining discipline. Within this framework, where senior officers are duty-bound to abide by the law, it is imperative that subordinates possess the right to abstain from any unlawful activities and, rather, have the prerogative to report such transgressions to their higher-ranking authorities. Being an Inquiry Officer, I hereby submit the following recommendations of Lower Subordinates for the initiation of separate departmental proceedings. These proceedings are warranted due to the direct or indirect involvement of certain individuals in acts of corruption:-

- a. IHC Irshad No.3174 Platoon-28
- b. IHC Fayaz Tahir No.2755 Platoon-31
- c. MHC Intikhab Alam No. 2026, MHC Elite District Charsadda. ✓
- d. MHC Altaf Hussain No.4970, MHC District Swabi.
- e. FC Tariq No.3071 Platoon-35
- f. FC Shams UI Hadi No.4954 Platoon-36
- g. FC Sabtain No. 3802 Platoon-97
- h. FC Zaheer Abbas No.3848 Platoon-36
- i. FC Muzamil No. 2908 Platoon-28 ✓
- j. FC Wajid No.473 Platoon-22 ✓

**Conclusion:**

After going through the statements of all concerned and other connected material available on record it has been clearly stand proved during the course of enquiry that accused IHC Suhbat has committed the offences of corrupt/ malpractices and the charges framed against him are fully established.

Submitted Please.

Inquiry Officer,



(ATTA MUHAMMAD)  
Superintendent of Police,  
Elite Force, Peshawar Range.

Co-Inquiry Officer,



(IJAZ KHAN BAZAR)  
Deputy Superintendent of Police,  
HQrs, Elite Force KP, Peshawar.


بہان آڈن ڈسٹرکٹ کمانڈر ~~میر~~ سردار حسین <sup>مردان</sup>

جس میں

مردان

میں محبت ڈسٹرکٹ کمانڈر ایلٹ فورس ~~مردان~~ میں ڈیوٹی پر تھیں۔ یہاں SP اور  
 ریجنل کمانڈر ایلٹ فورس ~~مردان~~ میں تھے۔ انھار میں ایچ آر اور ۱۱۷  
 سمیت خان کو حوالہ کرنا کا حکم ملا۔ فرمایا جو کہ ۱۱۷ سمیت خان نے اسے بیان کیا  
 انکو آئی آئی کو حوالہ کیا ہے جو کہ انکو آئی آئی کے لیے طلب میں کیا ہے دیگر  
 ڈیوٹی کارڈ جو کہ آئی آئی ایلٹ فورس میں حوالہ دیا ہے تو یہ ۰۵ ہے۔ اس کا  
 صاف پتہ پاس تھا اور انھوں نے اس کا پتہ اس کے بعد حوالہ دیا اور  
 صبر پاس جو وہ ہے صبر محبت ڈسٹرکٹ کمانڈر ضلع ~~مردان~~ کے بلا ٹونرا R.R.F  
 محبت کی ونٹر ٹیلڈ کسی زانی گاڑی میں کئی سڑاری گاڑی میں اور کئی کھانا  
 گاڑی میں گاڑی میں جانوروں کے جسم میں صبر سافو ریڈر میں سے اور  
 یہی صبر سافو صبر آفس میں کئی ڈھونڈی تھی ہے، یہاں گاڑی صبر کے آفس  
 میں انکو ریڈر سٹاف میں کام کرتا تھا دستخطی وغیرہ یہاں عمل کرانا تھا اور  
 صبر ونٹر کے دوران کے یہاں عمل اور ۱۱۷ سمیت کے خلاف کہانے کوئی  
 شہادتیں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہی صبر بیان ہے جو کہ حقیقت ہے۔

22-08-2023



15/10/23

SI/IC-RRF-UT SWABI  
U-7 MR-361

بیان آزدن گوہر الرحمن

20

صائب عالی

حقوق خدمت میں آریٹل سٹیبل سٹیبل بلا ٹون 97 تھا۔ شہزاد  
 کے بارے میں صاحب SP صاحب ایلیٹ ٹورس فردان ریخ فراوان  
 نے سن ای کو بہ حیثیت گنر بھیجا تھا اور ساگو بی بہ تا کیری کئی  
 سٹیبل مذکورہ بالا کو میں آپ کو بہ حیثیت گنر بھیجا ہوں۔  
 لیکن مذکورہ بلا سٹیبل کے ساگو آقا کوئی سروکار نہیں ہو گیا  
 لہذا وہ گویا موجود ہوتا تھا۔ اور مورم 7<sup>06</sup>/<sub>2023</sub> کو بروز منگل میرا  
 تہا ولم ڈسٹرکٹ گانڈی ضلع چارسدہ سے بلا ٹون 27 ضلع فردان  
 کا ٹلنگ کو سوا تھا۔ دیگر لاعلم ہوں۔ یہی میرا بیان ہے جو حقیقت پر نہیں ہے

3

SI/IC-RRF-UT SWABI  
02-10-2023

Handwritten signature/initials

نوٹ: آریٹل سٹیبل سٹیبل 23<sup>05</sup>/<sub>2023</sub> کو سوا ہے۔ [نوٹ 15 دن]

108

21

بیان اذال روح الامین سینڈ ملز آف اسپ ماہلیٹ فورس مردان امین

جناب الی

معرضاً خدمت ہوں کہ میں عرصہ ایسا سال سے آفس جناب  
SP ماہلیٹ فورس مردان امین کے ساتھ بطور P.A ڈیوٹی سرانجام  
دے رہا ہوں

4

تیار کرو سٹھپی میں جناب SP ماہلیٹ سے روایا ہوں رضیت وغیرہ  
میں منظور کرتا ہوں۔ <sup>HC</sup> اسپ ماہلیٹ کے ساتھ تفریح  
دفتری کام میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ کس ہی میرا ایسا لگا  
جو نہ حقیقت پر مبنی ہے

Signature  
روح الامین سینڈ ملز مردان  
ماہلیٹ فورس  
19-09-2023

(22)

بیان آذان کیسے اور سہ سلاحت خان

24 (24)

صدا بخانی

مخصوص خدمت میں کہ میں بطور کیسے اور سہ سلاحت خان کی ایک ایک فون پر  
 رخصت میں ہوں وہ ماہ سے ڈیڑھ سہ ماہ اور یہاں کیسے اور سہ سلاحت خان کے  
 علاوہ میں نے رخصت کی کسی بھی سرکاری رخصت میں عمل دخل نہیں کیا ہے  
 نہ میں نے کسی سے درخواست کی ہے نہ میں نے کسی سے اس کی سہ سلاحت خان  
 کیا ہے اور نہ ایک کسی سے یا رخصت کی ہے اگر سہ سلاحت خان  
 رخصت میں ایک سہ سلاحت خان سے کہ میں نے کسی سے اس کی سہ سلاحت خان  
 کی ہے یا کسی قسم کا کریشن کیا ہے تو میں اس سے اس کی سہ سلاحت خان  
 میں سہ سلاحت خان ہے جو تصدیق دینی ہے

(24)

سلاحت خان کیسے اور سہ سلاحت خان  
 کی ایک ایک فون پر  
 27.9.2023




بیان اذان لیون خان ۱۴۷  
۲۸۶۵

خواجہ شہزاد علی لیون خان ۱۴۷ معروض صورت یوں کہ من ۱۴۷۱ رطبت یادگوار  
 مہتمم ۲۷ جوگہ تقابہ نادی دنی میں لقیات ہے اور میں جوگیوں پر تقسیم ہے  
 اور من ۱۴۷۲ جوگہ غزاد میں طبیعت سبلسن کمانڈر ڈیوی سر افاح صاحب یوں  
 شامل اپنی ڈیوی ایمانداروں اور خوش اطوری سے سر افاح دے رہا ہے من ۱۴۷۳ کہ  
 رطبت دفتر مردان سے جو بھی حکم احکام ملتا ہے اسے کر یادگوار کمانڈر  
 فرانس میں اوتا ہے اور دین سر فرانس سے کہ وہ اپنی کتا میں یادگوار سے  
 یوٹیو ڈیوی سر دم شہزاد ڈیوی کیتے ہی جاتا ہوں اور یادگوار میں  
 بھی اپنی ڈیوی ایمانداروں سے سر افاح دیتا ہوں اور کسٹبل صاحب دین فرانس  
 نہ میں یادگوار میں ہیں اور دین فرانس بھی کسٹبل کو میں جانتا ہوں  
 یہ میرا بیان ہے جوگہ طبیعت یہ منی ہے بیان کر رہا ہے

لیون خان ۱۴۷  
۲۸۶۵ یادگوار مہتمم ۲۷ مردان

الف



بیان اذان ہندو پبلیشنگز، زمیں شاہ 11HC/698  
قرارداد خورس نو شہرہ  
ضاب عالی

بحوالہ مشہور پروانہ نمبری 393 جاریہ ضاب EF ایڈیشن ہندو  
کوٹہ لکھنؤ اور معروف خدمت ہوں۔ کہ میرا تبادلہ کم تر بنا دو جس سے پہلے  
بحوالہ آرڈر نمبری EF/24-9714-07/023 خورس 11 کو ایڈیشن ملے گا اور 21  
سے قرارداد خورس نو شہرہ ہوا۔ اس دوران بالا صاحبان کے حکم کی  
تعمیل کرتے ہوئے خورس 12 کو نو شہرہ پبلیشنگز لاہور میں تختہ  
قرارداد جاری کی۔ اور ایسی ڈیوٹی پوری ایمانداری کے ساتھ شروع کی  
پبلیشنگز لاہور میں دو بلاڈنگز ایڈیشن تھی اور ایک پونٹا RRF  
تھی قیمتات کم۔ جسکی خط و کتابت اور دیگر ڈیٹیلنگ کے لیے حسب  
الحکم اس دوران بالا لیکے سے دو نوٹس درقرارداد قیمتات تھے۔ جو میرے ساتھ  
ڈیوٹی سرانجام دیتے رہے۔ علاوہ انہیں ہندو پبلیشنگز لاہور کے ساتھ آرڈر  
نمبری EF/52-12947-07/023 خورس 07 کو بھی انچارج ہندو پبلیشنگز لاہور  
نو شہرہ سے قرارداد آرڈر ہوا۔ جس نے بحوالہ نمبر 03 پورنا 13/9/023  
اور بعد بعض جاریہ ہندو پبلیشنگز لاہور کے ساتھ روانگی کی۔ یہی میرا  
بیان ہے جو تم درست اور صفت پر مبنی ہے۔ زمیں شاہ 11HC

Shah  
21-09-023

21

بیان اذان جمعہ ٹیلی ویژن سادھو شمال HC 670

صحاب عالی :

حوالہ مشمولہ پروانہ مہتری 391 جاریہ ضابطہ SP صاحب  
 البتہ فورس بیسٹو ریجن جسٹس خدمت ہوں کہ میں HC بلڈوں  
 برڈ میں لئیات ہے۔ بلڈوں چند نوٹس لائی میں لئیات ہے  
 بلڈوں چند کارڈس ٹیڈ کورس حورم 30 04 23 جو اور حورم 23 06 23  
 کو اختیار ہوا۔ تو ڈسٹرکٹ ڈائریکٹوریٹ نوٹس نے ایڈ دفتر طلب  
 بتایا کہ میں نے SP صاحب حرجان ریجن نے نوٹس میں لایا ہے کہ آپ  
 جہلے ساڈ دھور ٹیڈ اور ریڈر ڈولڈ ڈیوٹیاں سرانجام دے گئے۔ تقریباً  
 3 ماہ سے ڈسٹرکٹ کمانڈر کے ساڈ ڈولڈ ایمانداری اور اس طرف سے  
 ناراض ہوں۔ اس 3 ماہ میں کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں  
 کی۔ پس ایسی سزا میں ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

بیان اذان اشہاد عالم

ضیاء عالمی

مقدور علی حدود ہوں کہ فرض فجر اشہاد عالم بعد نماز ۱۱  
 میں ریلوے سٹیڈیا کے میں ریلوے اسٹیشن پاس کیا ہے صبح چار بج  
 میں گزرتا تھا کہ اس سے فجر ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں  
 اس سے پہلے زمان پورے ریلوے ڈیوٹی رہتا تھا فوجی ریلوے  
 سے ڈیوٹی سرانجام دیا ہے ابھی تک اہلیت میں ہے کہ  
 بھی رفرنس بنا کر انکی جائز حکم حکم عدوی نہیں کیا ہے اپنا  
 ڈیوٹی عبادت کے سرانجام دے رہا ہوں خراج کارڈ  
 میں گھنٹہ فجر رکھی تھا کسی نے بھی ابھی تک کسی قسم سے  
 کا معاملہ نہیں کیا ہے اور نہیں ہیں جو کسی سے ہوں  
 کا معاملہ نہیں ہے ابھی سرانجام ہے فجر عبادت پر ہیں



الحسن  
 20/9/2023

(97)

(27)

دیان اذان سبٹین 3802 پلاٹ نمبر 97  
LHC

جناب عالی

محروم خدمت قبول کر کے من LHC سطور گن میں ڈسٹرکٹ

کمانڈر جناب اور دیاب ضلع جاسدن کے سٹاف کو ڈسٹرکٹ

سراجم کے رہائشیوں کے لئے لکھنے والی جناب ڈسٹرکٹ

کمانڈر سے کی جاسکتی ہے۔ من LHC میر جو بھی التزام عائد

کے لئے ہیں سراسر بے بنیاد اور ٹھوس نہیں ہے

من LHC کے کسی سے کوئی بھی سیمول کی کپن دین ہیں کی

اور نہ ہی اس بارے میں معلومات ہے تمام تر الزامات

بے بنیاد اور غلط ہیں

میرا یہی سارا ہے جو درست ہے

(A) 4/10

Md. S. Khan

3802 سبٹین پلاٹ نمبر 97  
LHC

338976 = M.O.

0318 6946590

بیان ازاں کسٹل دسپینر 4819 پلاٹوں نمبر 22

فنا مالک

مقدمہ مؤرخہ 22 مئی 1973ء پلاٹوں نمبر 22

سراجام راجہ کوالم مقدمہ نمبر 915 مورم 2016 333 TA 906

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

الڈیشن کے مسائل جب معمولی ہیں تو اس کے ذریعے یہ کیا

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت


تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت

تعمیرت کے دوران چھاپہ ڈکٹ کے قلعے کی حالت



(29) مای ازان محمد عادل 1416 FC

بدرمانت مای کمرتا ہوں کہ نوشیہ کولیس لندن بلاٹون فر 23  
کی سیرا لئنتی تھا اور اس سے قبل ازیں میں سنٹرل جیل  
ایشیا بلاٹون فر 23 میں لئنتی تھا۔ ڈیکوٹی شہکاروں خستہ کی  
تھر فورڈ چارپا تھا کمرتا ہے میں ٹورٹوڈ پر سیرا ایلپڈنٹ ہوا  
میں کی وجہ سے سیرا کمرتا ہے پوچھکا تھا میں کا سلام حجاز  
میں کیا گیا ہے۔ وجہ بیماری میں روز صبح اپنی ڈیکوٹی کیلئے  
حاضر ہوا کمرتا تھا اور نام کو وائس تھر فورڈ جاتا تھا۔ اس دوران  
میں تھر سے کسی قسم کی کوئی ناچانر ڈیمانڈ ہوئی ہے۔ انہیں سلام  
سیرا مارلہ کو الہ آرڈر فری 13504/EF - 13501 ٹورٹو  
20 فر بلاٹون فر 23 سے EPTC نوشیہ پشت وائس  
23  
ایئر پور چکا ہے۔ یہی سیرا مای ہے جو کہ درست ہے۔  
میر محمد سید لیل کاغذات بہراہ بلین لف ہے۔

29

محمد عادل  
1416  
MOB: 03005716102

بیان آذان طبعی 3848 نمبر 36 نمبر 30

کتاب عالی 1

من سائل ایلوڈ فرس 36 نمبر 36 صبح ہوائی میں بھگت ہوں میں حسب آواز  
 5 ایلوڈ فرس دوران صراخاں (جی) مدد 22 روزہ 17  $\frac{5}{23}$  بغرض گنڈوٹی سخت  
 ہا جو صوف روانہ ہو کر تقریباً 52 صبح گنڈوٹی پر بھگت رہا اس کا بعد خورد  
 54  $\frac{8}{23}$  گنڈوٹی سے بھگت یلاڈن 36 نمبر 36 روانہ کیا گیا ہوں صبح 17  $\frac{5}{23}$  تا 14  $\frac{8}{23}$   
 تک روٹیں میں گنڈوٹی کرتا اور روٹیں میں شب ماسی پر گنڈوڈ جانا اس کے بعد  
 من سائل کو اپنے ہائی (جو کہ سخت بیمار ہے) کے علاج معالجہ اور تھارڈر آئی کلید  
 نوٹیا ایک ماہ چھٹی دی جو کہ 14 جم اور 08 جم اور 06 جم ہے  
 پیسوں کے بابت میں قصداً بیان دینا ہوں کہ من سائل نے 5 ماہ اور اس کے کسی  
 کارڈز کو کسی قسم کی پیسے وغیرہ نہیں دیئے ہیں یہی میرا بیان ہے جو کہ قصداً  
 1 مئی 1966

16201-1268317-9  
 0301-5803596

P-36 - 3848 طبعی 36 نمبر 30

*(Handwritten signature)*

30



بیان آزاں K طاق + 3071 + پلاٹوں 35

ضارعی!

معرض حدت پیل کہ میں بساں پلاٹوں 35 سے حسب الحکم P صاحب  
 مردان رجن مراد جہاں بحوالہ عد 5 روزنا چم  $\frac{08}{023}$  بعرض گنر عقب صاحب  
 موصوف روانہ ہو کر تا حال گنر ڈوٹی پر مہینات ہوں اس روزوں میں  
 کنٹریل P صاحب یا کسی کارندے / گنر وغیرہ کو کسی قسم  
 کی کوئی رقم وغیرہ نہیں دی ہے اپنی ڈوٹی کی ہے۔ یہی صبر بیان  
 کے لئے جوئے صفت پر مبنی ہے

0313-8330225



P-35 3071 طاق

Office of the Deputy Commandant,  
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar



F  
= (32)

No. 7018-26/EF

Dated: 10/10/2023

ORDER

This order will dispose of departmental enquiry against IHC Sohbat No.3436 who was proceeded departmentally under Police Disciplinary rules 1975 on the charge of involvement in malpractice and receiving illegal gratification from the constable of Mardan Region in lieu of granting them short and long leave. Summary of allegation and charge sheet was issued to him and Mr. Atta Mohammad Khan SP Peshawar Region was appointed as enquiry officer. Later on Mr. Ijaz Abbazai DSP HQrs: EF was also appointed as additional enquiry officer to thorough probe into the matter.

The E.Os during the course of enquiry recorded statements of all concerned and the accused official as well. On conclusion of enquiry the charges framed against the accused official were established and finding report was submitted for its finalization.

He was heard in OR and the relevant record along with his statement perused. He failed to submit any plausible justification in his defense. Therefore, under police rules 1975 with amended rules 2014, the under-signed is competent authority to dispose of the instant enquiry on its own merit. Therefore he is hereby awarded the major punishment of **Dismissal from service** with immediate effect.

(ABDUS SAMAD) PSP  
Deputy Commandant  
Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar.

Copy of the above is forwarded for information to the:-

6. Addl:IGP Elite Force Khyber Pakhtunkhwa
7. SP.HQrs: Elite Force Peshawar with the direction to initiate departmental proceedings against official mentioned on the last page of Enquiry report from S.No.a to j, hence complete enquiry file is enclosed.
8. SP/Peshawar Region
9. SP.Mardan Region
10. Office Supdt: /EF
11. Accountant/EF
12. OASI/EF.CRC.FMC and all concerned.

Encl: 1/15 P/23 (File)



یٹ، سہری آف الزامات کے نوٹس حوالہ دیئے گئے ہیں مگر صرف خانہ بندی اور من پسند مقصد کیلئے پھیلنے کی مرحل میں جناب عطاء محمد SP رینج پشاور اور معاونت کیلئے جناب اعجاز خان DSP/HQrs ایڈٹ فورس پشاور مقرر کیئے گئے۔ جنہوں اصل حقائق سے مکمل طور پر گردانی کر کے میرے حق میں ملازمین کی اصل بیانات ہنس پشت ڈاکٹر متضاد شکل دیکر اثباتی شہادتوں سے پیش کیا۔ حالانکہ مندرجہ ذیل ملازمین جنکے بیانات کی نوٹسٹ کا پیاں بطور ثبوت لف ہیں کسی بھی ملازم نے لگائے الزامات کی تردید کی ہے جنکی بیانات کی روشنی میں من سائل بالکل بے گناہ اور مورد الزامات سے تبری الزمہ ہوں۔

ذیل ملازمین کے بیانات جو میرے حق میں ہیں انکو ازری آفیسر نے قلمبند کیئے۔

1	FC محمد عادل کٹھیل نمبر 1416 پلاٹون نمبر 23 نوشہرہ
2	FC رمیز خان کٹھیل نمبر 4819 پلاٹون نمبر 22 نوشہرہ
3	HC طاہر خان نمبر 3684 پلاٹون نمبر 98 چارسدہ
4	انسپکٹور سرد حسین خان ڈسٹرکٹ کمانڈر مردان
5	SI گوہر خان ڈسٹرکٹ چارسدہ
6	FC بسطنین نمبر 3802 پلاٹون نمبر 97 چارسدہ
7	FC ذکریا نمبر 3374 ڈرائیور ضلع چارسدہ
8	جناب محترم مراد خان SP صاحب ایڈٹ فورس پشاور
9	SC روح الامین PA to SP/Mardan Region
10	LHC الطاف حسین نمبر 4970 پلاٹون نمبر 35 صوابی
11	FC محمد طارق نمبر 3071 پلاٹون نمبر 35 صوابی
12	FC ظہیر عباس نمبر 3848 پلاٹون نمبر 36 صوابی

مندرجہ بالا ملازمین کے بیانات غلط انداز میں پیش کیئے جا کر انکو ازری آفیسر نے اُنکے بیانات میرے خلاف بطور ثبوت الزامات کے تائید میں پیش کیئے ہیں تاکہ میری گرفت ہو کر قابل مواخذہ برائے عطا نیکی سزا حکمانہ گردانا جائے مگر صورت حال اسکے برعکس ہیں، حالانکہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مزید یہ کہ مندرجہ ذیل ملازمین جو حق میں بیان دینے کی حمایتی ہیں مراسر انکو قلمبند بیانات کیلئے طلب نہیں کیئے۔ جنکے بیانات نہایت اہم و لازمی تھے مگر پھیل انکو ازری میں ایسا نہیں کیا گیا۔

Salimati

1	IHC ارشاد خان پلاٹون نمبر 28 ضلع مردان
2	FC مزمل شاہ نمبر 2908 پلاٹون نمبر 28 ضلع مردان
3	IHC فیاض طاہر پلاٹون نمبر 31 مردان
4	FC شمس الہادی نمبر 4914 پلاٹون نمبر 36 ضلع صوابی

35

فارمل حکمانہ کارروائی کی تکمیل ہو کر بحوالہ لیٹر تحریری نمبر SP/RI/EF/437/R مورخہ 17.10.2023 کو انکوائری آفسران عطا محمد SP صاحب پشاور ریجن معاون E.O جناب اعجاز خان ابازائی DSP/HQrs, EF جناب ڈپٹی کمائڈنٹ ایلیٹ فورس خیبر پختونخواہ پشاور کو مرسل کیا جنہوں نے چارج شیٹ، سری الزامات دیکر سائیل فائل شوکا ز نوٹس نہیں دیا۔ نہ ہی اردلی روم میں پیش کیا اور نہ ہی اپنے حق میں صفائی کا موقع دیا اور بیک قلم جنوش سائیل کو ملازمت سبکدوش کیا۔ سائیل کے خلاف لگائے گئے الزامات غلط، من گھڑت بے بنیاد ہیں۔ صرف ذاتی عناد کے بناء پر قلم کا نشانہ بنا کر معاشی طور مفلوج کیا۔ سائیل کے چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے کنبہ خاندان کا واحد کفیل ہے۔ دیکر کوئی معاش ذرائع آمدن نہیں، "حائق چپ نہیں سکتے بناوٹ کے صولوں سے" اصل حائق کچھ اور جسکو غلط رنگ دیکر سائیل ناقابل مطالبی نقصان پہنچایا۔

آپ صاحبان سے ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا معروضات پر انصاف پر مبنی نگاہ ڈال کر سائیل کو اپنی ملازمت معہ جمعہ مفادات پر بحال فرمادیں، برطرنی حکم کالعم و منسوخ فرمادیں۔ المرقوم 16.11.2023

ارض

سابقہ IHC صحبت خان نمبر 3436 ولد مریم خان سکندہ مہرا کندے پایان پشاور

موبائل فون نمبر 0313-9465481

0302-5521032

EC  
11/11/2023

**VAKALAT NAMA**

NO. \_\_\_\_\_/2024

IN THE COURT OF KP Service Tribunal, Peshawar

Sabbat Khan

(Appellant)  
(Petitioner)  
(Plaintiff)

VERSUS

Police Department

(Respondent)  
(Defendant)

I/We, \_\_\_\_\_

Do hereby appoint and constitute **TAIMUR ALI KHAN, ADVOCATE HIGH COURT**, to appear, plead, act, compromise, withdraw or refer to arbitration for me/us as my/our Counsel/Advocate in the above noted matter, without any liability for his default and with the authority to engage/appoint any other Advocate/Counsel on my/our costs.

I/We authorize the said Advocate to deposit, withdraw and receive on my/our behalf all sums and amounts payable or deposited on my/our account in the above noted matter. The Advocate/Counsel is also at liberty to leave my/our case at any stage of the proceedings, if his any fee left unpaid or is outstanding against me/us.

Dated \_\_\_\_\_/2024

Sabbat Khan

(CLIENT)

**ACCEPTED**



**TAIMUR ALI KHAN**  
Advocate High Court

**BC-10-4240**  
**CNIC: 17101-7395544-5**  
**Cell No. 03339390916**